



سوال

عمرہ کے لئے پیسے جمع کرنے کا طریقہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک کمپنی کے ملازمین نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ ہر ملازم ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے ایک فیصد جمع کروا دے گا، یعنی جس کی تنخواہ دس ہزار ہے وہ ایک فیصد سو روپے اور جس کی ایک لاکھ ہے وہ ایک فیصد ایک ہزار روپے جمع کروائے گا، تین ماہ بعد جب ایک لاکھ روپے جمع ہونگے تو پرچی نکالیں گے جس کا نام نفلے گا وہ عمرہ پر جانے کا، کیا یہ طریقہ درست ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عمرہ کے لئے پیسے جمع کرنے کا یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں غرر (دھوکہ) ہے اور قرعہ اندازی سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس کی باری کب آئے گی اور ممکن ہے تب تک وہ اس فیکٹری سے ہی چھوڑ جائے، نیز جو وہ پیسے حاصل کر رہا ہے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ اس میں زیادہ تر حصہ دیگر لوگوں کا شامل ہے، مجھے یہ شکل یولی والی کمیٹی کی طرح ہی لگ رہی ہے، جس میں لوگوں کو موٹر سائیکل وغیرہ دی جاتی ہیں، جبکہ یہاں عمرہ کا ٹکٹ رکھ دیا گیا ہے۔

نیز یاد رہے کہ عمرہ ایک مالی عبادت جو انسان کی اپنی مالی استطاعت پر واجب ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے ورنہ نہیں ہے، اس میں لوگوں کے پیسوں سے عمرہ کرنے سے ثواب بھی ان کو ہی ملے گا۔

حدا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ